



وَاللَّهُ لَتَذُكِرَةَ لِلْمُتَّقِينَ



اور یہ (کتاب) تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندہری)

سورة الحاقة

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1) الْحَاقَّةُ

سچ مچ ہونے والی

(2) مَا الْحَاقَّةُ

سچ مچ ہونے والی کیا ہے

(3) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4)

کھڑکھڑانے والی (جس) کو ثمود اور عاد (دونوں) نے جھٹلایا

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5)

سو ثمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے

وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6)

رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَشَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَارٌ مِّنْ حُلٍّ خَاوِيَةٍ (7)

تو لوگوں کو اس میں (اس طرح) ڈھے (اور مرے) پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8)

بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَرَأْسُ وَجَشِئْتِهِ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ (9)

اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو اٹلی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً (10)

انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی انکو بڑا سخت پکڑا

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَا كُفْرًا فِي الْجَارِيَةِ (11)

جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم (لوگوں) کو کشتی میں سوار کر لیا

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُنْذُنٌ وَّاعِيَةٌ (12)

تاکہ اس کو تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَّاحِدَةً (13)

تو جب صور میں ایک (بار) پھونک مار دی جائے گی

وَسُحِمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے

فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً (14)

پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیئے جائیں گے

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15)

تو اس روز ہو پڑنے والی (یعنی قیامت) ہو پڑے گی

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16)

اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا

اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17)

اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے

يَوْمَئِذٍ نُعْرَضُ صُورَ

اس روز تم (سب لوگوں کے سامنے) پیش کئے جاؤ گے

لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18)

اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرِيسَالِهِ فَيَقُولُ

تو جس کا (اعمال) نامہ اسکے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (دوسروں) سے کہے گا کہ

هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهٗ (19)

لیجئے میرا نامہ (اعمال) پڑھیے

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ (20)

مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب (کتاب) ضرور ملے گا

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (21)

پس وہ (شخص) من مانے عیش میں ہوگا

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22)

پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا

فُطُوْهُنَّآ دَانِيَةً (23)

جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)

جو (عمل) تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ

اور جس کا نامہ (اعمال) اسکے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ (25)

اے کاش مجھ کو میرا (اعمال) نامہ نہ دیا جاتا

وَلَمْ أُدْرِمَا حِسَابِيَهٗ (26)

اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے؟

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27)

اے کاش موت (ابدالا آباد کیلئے میرا کام) تمام کر چکی ہوتی

مَا أَعْنَى عَيِّي مَالِيَهٗ (28)

میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔

هَلَكَ عَيِّي سُلْطَانِيَهٗ (29)

(ہائے) میری سلطنت خاک میں مل گئی

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30)

(حکم ہو گا کہ) اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو

ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلُّوهُ (31)

پھر اسے دوزخ کی آگ میں جھونک دو

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32)

پھر زنجیر سے جس کی ناب ستر گز ہے جکڑ دو

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33)

یہ نہ تو خدائے جل شانہ پر ایمان لاتا تھا

وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (34)

اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35)

سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينِ (36)

اور نہ پیپ کے سوا (اسکے لئے) کھانا ہے

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37)

جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38)

تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39)

اور انکی جو نظر نہیں آتی

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40)

کہ یہ (قرآن) فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ^ج

اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں

قَلِيلًا مَّا تَوَمَّنُونَ (41)

مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو

ج
وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ

اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (42)

لیکن تم لوگ بہت کم فکر کرتے ہو

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (43)

(یہ تو) پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44)

اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لائے

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45)

تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46)

پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)

پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا

وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِلْمُتَّقِينَ (48)

اور یہ (کتاب) تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ (49)

اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلاتے ہیں

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50)

نیز یہ کافروں کے لئے (موجب) حسرت ہے

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51)

اور کچھ نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52)

سو تم اپنے پروردگار عزوجل کے نام کی تنزیہہ (تسبیح) کرتے رہو۔



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com